



## برکت، کھانہ کے بیچ میں نازل ہوتی ہے، اس لیے تم لوگ اس کے کنارے کھاؤ، بیچ سے مت کھاؤ

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”برکت، کھانہ کے بیچ میں نازل ہوتی ہے، اس لیے تم لوگ اس کے کنارے کھاؤ، بیچ سے مت کھاؤ“  
 [صحیح] [اسد ابن ماجہ نے روایت کیا ہے] - اسد امام ترمذی نے روایت کیا ہے] - اسد امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے] - اسد امام احمد نے روایت کیا ہے] - اسد امام دارمی نے روایت کیا ہے]

اس حدیث میں کسی بڑے برتن ('قصر') دس افراد کے کھانہ کے بڑے برتن کو کہتے ہیں) یا کھانہ کے بڑے قاب وغیرہ میں اجتماعی طور پر بیٹھ کر کھانہ کے آداب میں سے ایک اہم ادب کی جانب رہنمائی کی گئی ہے کہ جس میں نبی ﷺ نے برتن کے اطراف و اکناف سے کھانہ کی ہدایت فرمائی اور برتن کے بیچ سے کھانہ سے منع فرمایا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کھانہ کے بیچ میں برکت اور خیر نازل ہوتا ہے اور کھانہ کی برکت یہ ہے کہ کھانا، مقدار میں کم ہونے کے باوجود سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور کچھ برکت اور خیر کے پہلو یہ بھی ہیں کہ کھانہ میں پسندیدگی و شکم سیری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اگر کچھ کھانا باقی رہے بھی جائے تو کسی کا ہاتھ نہ لگنے کے سبب، وہ حصہ صاف ستھرا رہے گا اور کھانہ سے فارغ ہو جانے والوں کے بعد دیگر آنے والے افراد بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگر کھانہ کے بیچ سے کھانا شروع کیا جائے تو سارے کھانہ کی حالت ابتر ہو جائے گی اور وہ بعد میں آنے والوں کے کھانے لائق نہ رہے گا اور نتیجے میں کوڑے دان کی نذر ہوگا، چاہے وہ وافر مقدار ہی میں کیوں نہ ہو

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/58121>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

